

آدی بasi

ہندوستان ایک وسیع ملک ہے۔ یہاں اگر ایک طرف بڑے بڑے ہموار اور زرخیز میدانی علاقے ہیں تو دوسری طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، گھری وادیاں ہیں اور دُور دُور تک پھیلے ہوئے جنگلات ہیں۔ بعض علاقے آبادیوں سے دور ہیں اور وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔

پرانے زمانے میں دنیا کے دوسرے حصوں سے بہت سے لوگ ہندوستان آتے رہے۔ یہ سلسلہ ہزاروں برس تک چلتا رہا۔ نئے آنے والوں اور پرانے بسنے والوں میں ٹکڑا بھی ہوا لیکن پھر وہ سب یہیں کی آبادی میں گھل مل گئے۔ اس طرح زبان، تہذیب اور مذہب کے اعتبار سے مختلف گروہوں کی ملی جلی آبادیاں قائم ہو گئیں۔ البتہ کچھ لوگ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر رہنے لگے۔ آج بھی ملک کے دُور دراز مقامات پر کچھ لوگ عام آبادی سے الگ تھلک اپنے پرانے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی لوگ آدی باسی یعنی ”پرانے بسنے والے“ کہلاتے



ہیں۔ ایسے لوگوں کی خاصی تعداد ملک کے پہاڑی سلسلوں اور جنگلوں میں رہتی ہے۔ آدی باسیوں کے مختلف گروہ مختلف علاقوں میں آباد ہیں اور ہر گروہ کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔

ہندوستان کے آدی بامی قبیلے تین بڑے خطوں میں بے ہیں۔ ایک جنوبی ہند کے، ساحلِ سمندر کے پہاڑی علاقوں میں، دوسرے وسطیٰ ہندوستان کے پہاڑوں اور جنگلوں میں اور تیسرا ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں۔ وسطیٰ ہندوستان میں جو قبیلے آباد ہیں ان میں سنتھال، بھیل، گونڈ اور منڈا قابل ذکر ہیں۔ قدوقامت اور رہنمائی کے اعتبار سے یہ بڑی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔

کچھ گروہ نیفا (NEFA) اور پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں۔ ان میں گارو، گھاسی، ناگا اور دوسرے بہت سے قبائل ہیں۔ ان کے علاوہ جزاں اندمان اور نکوبار میں بھی آدی باسیوں کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ ان میں کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جو دنیا کے قدیم ترین انسانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

جنوبی ہندوستان میں بھی آدی باسیوں کے بہت سے قبیلے آباد ہیں۔ ان سب قبیلوں کی شکل و صورت اور طور طریقے بہت کچھ ملتے جلتے ہیں۔ ہندوستان کی آبادی میں یہ قبیلے قدیم ترین کہے جاسکتے ہیں۔ زیادہ تر قبائلی آبادی شکار کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔

جنوب میں مغربی ساحل کا علاقہ نباتاتی دولت سے مالا مال ہے۔ یہاں جنگلی جانوروں کی بھی بہتات ہے۔ ہاتھی، شیر، ریچھ اور بھینسے یہاں بہ کثرت ملتے ہیں۔ ان پہاڑیوں میں آباد قبائل، خانہ بدوش ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ دس بارہ خاندانوں کے لوگ اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کی اوپری چوٹیوں پر پانی کے چشمیوں کے قریب جھونپڑے بناتے ہیں۔ ایک ہی جھونپڑے میں دو خاندان ہوں تو نیچے میں پردے کے طور پر ٹھیک لگادی جاتی ہے۔ مکان بنانے سے ان کو زیادہ دل چسپی نہیں کیونکہ ان کے گزر بسر کا دار و مدار بھیتی بائزی کے بجائے جنگل کی پیداوار اور شکار پر ہے۔ جنگل کی پیداوار میں شہد، جنگلی پودوں کی نرم جڑ اور جنگلی پھول شامل ہیں۔



شہد اکٹھا کرنے کے لیے یہ ان درختوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں شہد کی لمبیاں چھتے بناتی ہیں۔ یہ ان درختوں میں کھونیاں گاڑ دیتے ہیں تاکہ ان پر چڑھنے میں آسانی ہو۔ عام طور پر برسات میں باڑش کے بعد یہ لوگ رات کے وقت چھتوں کے قریب جاتے ہیں ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل لیے رہتے ہیں تاکہ شعلے کی چک اور دھوئیں کی وجہ سے لمبیاں ڈنک نہ مار سکیں۔ شہد اکٹھا کرنے کا کام ہفتواں تک جاری رہتا ہے۔ رات کو جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے آگ جلاتے ہیں۔ اکثر چڑاؤں کے اندر بھی شہد کے چھتے مل جاتے ہیں۔ یہ لوگ رسیوں کی مدد سے مشکل سے مشکل جگہ پر بھی پہنچ جاتے ہیں اور شہد نکال لاتے ہیں۔

آدی بائی نرم جڑوں کو بھون کر کھاتے ہیں۔ بہت سی جڑیں آلو، شکر قند وغیرہ جیسی ہوتی ہیں۔ کچھ جڑیں ابال کر کھاتے ہیں اور کچھ کوسکھا کر آٹے کی طرح پیس لیتے ہیں اور ان سے کھانے کی دوسری چیزیں تیار کرتے ہیں۔

آدی باسیوں کے لیے جنگلی جانوروں کے شکار کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ لوگ شکار کے لیے کتوں کی مدد لیتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں ہرنوں کی کثرت ہے۔ کتوں کی مدد سے یہ ہرنوں کو تنگ گھاٹیوں کے راستے چشموں کے کناروں تک لے آتے ہیں۔ اور پھر ہر طرف سے ان کا راستہ بند کر دیتے ہیں۔ ہرنوں کو نچنے کے لیے پانی میں کو دنا پڑتا ہے۔ پانی میں تیرتے ہوئے ہرنوں کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور اس طرح آدی باسی ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ ان کا گوشت کھالیا جاتا ہے اور کھال اوڑھنے بچھانے اور پوشک بنانے کے کام آتی ہے۔ کبھی یہ ہرن کو کھال سمیت بھون لیتے ہیں اور بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ مچھلی کا شکار بھی ان کا محبوب مشغله ہے۔ یہ لوگ پانی کو گڑھوں میں روک لیتے ہیں ان میں مچھلیاں پل جاتی ہیں تو پانی میں کسی درخت کی چھال کا سفوف چھڑک دیتے ہیں۔ سفوف پانی میں ملتے ہی مچھلیاں بے دم ہونے لگتی ہیں اور انھیں یہ پکڑ لیتے ہیں۔ مچھلی کے شکار میں عورتیں اور بچے بھی شوق سے حصہ لیتے ہیں۔ اخذ ہے، کچھوے، جنگلی چوہے اور بندرا بھی ان کے شکار کا حصہ بنتے ہیں۔



صدیوں سے آدی باسی لوگ دشوار گزار اور دُور دراز علاقوں میں محنت، مشقت، مفلسی اور پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن قدرت نے ان کو قناعت کی بڑی دولت دی ہے۔ یہ نہ صرف اپنی مشقت کی زندگی کو ہنسی خوشی گزارتے ہیں بلکہ اپنے لوک گیتوں، ناچوں اور طرح طرح کی تقریبوں سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور جی بھر کے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آدی باسی ہمارے ملک کی رنگ رنگ زندگی کا نہایت اہم حصہ ہیں۔ ان کے طور طریقے اور رسم و رواج نہ صرف قدیم ہندوستان کی یاددالاتے ہیں بلکہ یہ ہماری قومی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ آدی باسیوں کی ضرورتوں اور تعلیم و تربیت پر بھی توجہ ہو رہی ہے۔



معنی یاد کیجیے

| | | |
|---------------|---|---|
| ہموار | : | برابر |
| قدوتا ملت | : | ڈیل ڈول |
| قبائل | : | قبیلے کی جمع، گروہ کی شکل میں رہنے والے قدیم باشندے |
| قدمی ترین | : | سب سے زیادہ پرانا |
| نباتات | : | پیڑ پودے |
| ٹیکی | : | بانس یا سرکنڈوں کا بنا ہوا چھوٹا پرده |
| رغبت | : | شوک |
| محبوب مشغله | : | پسندیدہ کام |
| سفوف | : | پسی ہوئی چیز، پاؤ ڈر |
| دشوار گزار | : | مشکل |
| دور دراز کا | : | بہت دور کا |
| پس مانگی | : | پچھڑا پن |
| قناعت | : | جو کچھ مل جائے اس پر خوش رہنا |
| لف اندوز ہونا | : | مزے لینا |

سوچیے اور بتائیے۔

1. آدمی بائی کسے کہتے ہیں؟
2. ہندوستان کے آدمی بائی قبیلے کہاں آباد ہیں اور ان کی کیا خصوصیات ہیں؟
3. آدمی بائیوں کی عام غذا کیا ہے؟
4. جنوب مغربی ساحل پر آباد قبائل کس طرح زندگی گزارتے ہیں؟

5. آدی باسی درختوں سے شہد کس طرح حاصل کرتے ہیں؟
6. آدی باسی ہرن اور مچھلی کا شکار کس طرح کرتے ہیں؟
7. قدرت نے آدی باسیوں کو کس دولت سے نوازا ہے؟

خالی جگہ کو بھریے۔

1. نئے آنے والوں اور پُرانے لئے والوں میں _____ بھی ہوا۔
2. جنوبی ہندوستان میں بھی آدی باسیوں کے بہت سے _____ آباد ہیں۔
3. وہ پہاڑوں کی _____ چوٹیوں پر، پانی کے _____ کے قریب _____ باتے ہیں۔
4. آدی باسیوں کے لیے _____ جانوروں کے شکار کی بڑی _____ ہے۔
5. مچھلی کے شکار میں _____ اور پچھے بھی _____ سے حصہ لیتے ہیں۔
6. آدی باسی ہمارے _____ کی رنگ زندگی کا _____ اہم حصہ ہیں۔

نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔

دوسرے دن
قدوقامت خانہ بدش
دارو مدار دشوار گزار

صحیح بیان کے سامنے (✓) اور غلط کے سامنے (✗) کا نشان لگائیے۔

- () بعض علاقے آبادیوں سے دور ہیں اور وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے۔
- () جو لوگ عام آبادی کے ساتھ مل جلنے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں انھیں آدی باسی کہتے ہیں۔
- () وسطی ہندوستان کے قبیلے بڑی حد تک ایک دوسرے سے ملنے جلتے ہیں۔
- () زیادہ تر قبائلی آبادی کھینچتی باڑی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔
- () پانی میں تیرتے ہوئے ہر نوں کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے۔

- () 6. پانی میں سفوف ملتے ہی مچھلیاں اُسے کھانے لگتی ہیں۔
- () 7. آدی باسیوں کے طور طریقے اور رسم و رواج قدیم ہندوستان کی یاد دلاتے ہیں۔

ان لفظوں کے واحد لکھیے۔

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| جنگلات | نماہب | مقامات | خاصیات |
| قبائل | مکانات | مشکلات | ترقیات |

عملی کام

- آدی باسیوں کے بارے میں دس جملے لکھیے۔

غور کرنے کی بات

- آدی بasi دنیا کے سبھی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے اپنے نمہب، اپنے دیوتا اور اپنے تہوار ہوتے ہیں۔
- آدی باسیوں کی زندگی معمولی اور رحمود ہوتی ہے۔ یہ لوگ تیز طرار نہیں ہوتے ہیں نہ ہی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں ترقی بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ بیشتر آدی بasi بہت کم لباس پہنتے ہیں اور ان کے ہتھیار آج بھی تیر کمان اور بھالا وغیرہ ہوتے ہیں۔
- ہندوستان میں مدھیہ پردیش، بنگال، اڑیسہ، گجرات، آندھرا پردیش، کشمیر، ہماچل پردیش، تامل نادو، راجستھان اور مہاراشٹر کے صوبوں میں آدی باسیوں کی کافی تعداد پائی جاتی ہے۔ پچھلے سالوں میں آدی باسیوں کی بڑی آبادی والے دو صوبے جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ بنائے گئے ہیں۔ ان کی ترقی کے لیے ان صوبوں میں خصوصی اقدام کیے جا رہے ہیں۔